

# Maulana Azad National Urdu University

B.Sc.(M.P.C) V Semester Examination - September - 2020

## UGPH501SET: Radiation and Safety (SEC)

کل نمبرات : 35

Special Examination

وقت: 2 گھنٹے

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 5 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/غایل جگہ پر کرنا/اختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔  
(5 x 1 = 5 Marks)

2. حصہ دوم آٹھ سوالات پر مبنی ہیں، اور اس میں طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 100 لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 4 نمبرات مختص ہیں۔  
(5 x 4 = 20 Marks)

3. حصہ سوم میں دو سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ ہر سوال کا جواب تقریباً ڈھائی سو 250 لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔  
1 x 10 = 10 Marks

### حصہ اول

سوال (1)

- ICRP کا مخفف یہ ہے۔ (i)  
رائیڈ برگ مستقل کی اکائی \_\_\_\_\_ ہے؟ (ii)  
NMP کا مطلب یہ ہے۔ (iii)  
تابکاری کا عامل \_\_\_\_\_ (سالمی/جوہری/نیوکلیائی) کا مظہر ہے۔ (iv)  
ورک فٹشن کی تعریف کریں۔ (v)

### حصہ دوم

- تابکاری زوال (Radioactive Decay) اور ہاف لائف پر ایک نوٹ لکھیے۔ (2)  
ایکسپوژر، جذب شدہ ڈوس، مساوی ڈوس، اثری ڈوس اور اجتماعی مساوی ڈوس کی تعریف کریں۔ (3)  
آئیونی تابکاری (Ionising Radiation) کے حیاتیاتی اثرات کیا ہیں۔ (4)  
نیوکلیائی ڈھانچہ (Nuclear Structure) اور بندشی تو نانی سے کیا مراد ہے۔ (5)  
ہم نیوکلیائی فضلہ اور اسکو ضائع کرنے کا انتظام کیسے کر پاتے ہیں۔ سمجھائیے۔ (6)  
رائیڈ برگ مستقل سے کیا مراد ہے اور اسکی مساوات کو اخذ کریں۔ (7)  
این ایم آر کی تعریف کریں اور اس کی کوئی تین احتیاطی مدد ایریان کریں۔ (8)  
گیس ڈیلٹیکٹر (Gas Detectors) کے بنیادی تصور اور اس کے کام کرنے کے اصول پر بحث کریں۔ (9)

### حصہ سوم

- بوہر کا جوہری نظریہ (Bohr's Atomic Theory) پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ (10)  
اعشعی حفاظتی انتظامیہ (Radiation Safety Management) پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ (11)